

# الطُّور

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قسم ہے طور کی۔

وَالطُّورِ ١

اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ٢

کشادہ ورق میں۔

فِي رَقٍ مَّنشُورٍ ٣

اور گھر کی جو آباد ہے۔

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤

اور چھت کی جو اونچی ہے۔

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥

اور سمندر کی جو جوش مارے۔

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦

بیشک عذاب تیرے رب کا واقع ہونی والا ہے۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧

نہیں ہے اس کو کوئی روکنے والا۔

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨

جس دن لرز نے لگے آسمان کپکپا کر۔

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

اور چلنے لگیں پہاڑ ایک خاص چلنا۔

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾

تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا كَذَّبُوا ﴿١١﴾

وہ جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾

جس دن دھکیے جائیں گے آگ کی طرف جہنم کی دھکے دیکر۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿١٣﴾

یہی آگ ہے وہ تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

تو کیا جادو ہے یہ یا تمہیں نہیں کچھ نظر ہی آتا۔

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

داخل ہو جاؤ اس میں تو پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو۔ سب برابر ہے تمہارے لئے۔ بس بدلہ مل رہا ہے تلو اسکا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

ل  
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

یقیناً متقی ہوں گے باغوں میں اور نعمتوں میں۔

ج  
فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَّهٖمُ  
رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

خوشحال ہونگے اسپر جو بچھا انکو انکے رب نے۔  
اور بچالیا انکو انکے رب نے عذاب دوزخ سے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

(کھا جائے گا) کھاؤ اور پیو مزے سے  
اسکے صلے میں جو تم کرتے تھے۔

ج  
مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ  
وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

تھکیے لگائے ہوئے ہونگے تختوں پر قطار در  
قطار۔ اور بیاہ دیں گے ہم انہیں خوبصورت  
آنکھوں والی حوروں سے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ  
بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا  
آلَتْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ  
أَمْرٍ إِلَيْهِمَا كَسْبٍ رَّهِيْنٍ ﴿٢١﴾

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اتباع کی انکی  
انکی اولاد نے راہ ایمان میں۔ ملا دیں گے ہم  
انکے ساتھ انکی اولاد کو۔ اور نہ کم کریں گے  
انکے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر فرد اپنی کمائی  
کے بدلے میں رہن ہے۔

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا  
يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

اور عطا کریں گے ہم انکو لذیذ پھل اور گوشت  
جس طرح کے وہ چاہیں گے۔

چھینا جھپٹی کریں گے وہ وہاں جام شراب کی  
نہ کوئی لغوبات ہوگی جس سے اور نہ کوئی گناہ۔

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْوَ فِيهَا  
وَلَا تَأْتِيهِمْ

اور پھریں گے انکے آس پاس انکے نوجوان  
خدمتگار ایسے جیسے کہ موتی چھپائے ہوئے۔

وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ  
لُؤْلُؤُ مَكْنُونٌ

اور متوجہ ہونگے وہ ایک دوسرے کی طرف  
آپس میں گفتگو کرتے ہوئے۔

وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
يَتَسَاءَلُونَ

کہیں گے کہ ہم تم سے پہلے اپنے گھر  
والوں میں (اللہ سے) ڈرتے ہوئے۔

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا  
مُشْفِقِينَ

تو احسان فرمایا اللہ نے ہم پر اور ہمیں بچا لیا  
عذاب سے دوزخ کی گرم ہوا کے۔

فَمَنْ لِّلَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ  
السَّمُومِ

یقیناً ہم اس سے پہلے اسے پکارا کرتے تھے۔  
بیشک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ  
الْبَرُّ الرَّحِيمُ

تو تم نصیحت کرتے رہو سو نہیں ہو تم فضل

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ

سے اپنے رب کے کاہن اور نہ دیوانے۔

بِكَاهِنٍ وَلَا جَاهِنِينَ ط

کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اسکے لئے زمانے کی گردش کا۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ط

کہہ دو کہ انتظار کئے جاؤ تو بیشک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنیوالوں میں۔

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ط

کیا سکھاتی ہیں انکو انکی عقلیں یہی۔ یا یہ لوگ میں ہی سرکش۔

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ج

کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس (قرآن) کو اسنے۔ بات یہ ہے کہ نہیں یہ ایمان رکھتے۔

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ج

تو انہیں چاہیے کہ بنا لائیں کلام اس جیسا اگر یہ سچے ہیں۔

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ط

کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی کے (پیدا کئے) یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ط

کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو۔  
بلکہ نہیں یہ یقین ہی رکھتے۔

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل  
لَّا يُوقِنُونَ ﴿٢٦﴾

کیا انکے پاس خزانے میں تیرے رب کے۔  
کیا یہ کہیں کے داروغہ ہیں۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ  
الْمُصَيِّرُونَ ﴿٢٧﴾

کیا انکے پاس کوئی سیرھی ہے تو باتیں سن  
آتے ہیں جس پر چڑھ کر۔ تو لیکر آئے جو سن کر  
آتا ہے انہیں سے کوئی سند کھلی ہوئی۔

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ  
فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ  
مُبِينٍ ﴿٢٨﴾

کیا اسکے لئے ہیں بیٹیاں اور تمہارے بیٹے۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٢٩﴾

کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی معاوضہ کہ وہ اسکے  
تاوان سے دبے جاتے ہیں۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ  
مَّغْرَمٍ مَُّتَقَلُونَ ﴿٣٠﴾

کیا انکے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ  
لیتے ہیں۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ  
يَكْتُبُونَ ﴿٣١﴾

کیا یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی داؤں۔ تو وہ جہنوں

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا

نے کفر کیا وہ خود داؤں میں آنے والے ہیں۔

هُمُ الْمَكِيدُونَ<sup>ط</sup>

کیا ان کا کوئی معبود ہے سوائے اللہ کے۔  
پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ<sup>ط</sup> سُبْحَانَ اللَّهِ  
عَمَّا يُشْرِكُونَ<sup>ط</sup>

اور اگر یہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو  
کہیں کہ بادل ہے کہ اٹا آتا ہے۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا  
يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ<sup>ط</sup>

تو چھوڑ دو انکو یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس  
دن سے جس میں یہ ہوش کھو بیٹھیں گے۔

فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي  
فِيهِ يُصْعَقُونَ<sup>ط</sup>

جس دن نہ کام آنے گا انکو انکا کوئی داؤں کچھ  
بھی اور نہ انکی مدد کیجائیگی۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا  
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ<sup>ط</sup>

اور یقیناً انلوگوں کے لئے ہے جہنوں نے ظلم  
کیا عذاب اسکے سوا لیکن انہیں اکثر نہیں جانتے۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>ط</sup>

اور صبر کئے رہو تم حکم کا اپنے رب کے۔ یقیناً

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور پاکی بیان  
کو حمد کے ساتھ اپنے رب کی جب اٹھا کرو۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ<sup>٤٨</sup>



اور رات میں بھی پھر تسبیح کیا کرو اسکی اور اس  
وقت بھی جب (پلٹتے ہیں ستارے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ

النُّجُومِ<sup>٤٩</sup>

